



(uten bilde)

- III nivå 3
- ଓ urdu
- ☞ Samrina Sana
- ☞ Meghan Judge
- ☞ Lindiwe Matsikiza

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreført midlert av Barnebøker for Norge (barnebokerno.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Overrett av: Samrina Sana
Illustrert av: Meghan Judge
Skrevet av: Lindiwe Matsikiza



barnebokerno.no

Barnebøker for Norge






یہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی۔ جس نے دور فاصلے پر ایک
پراسرار چیز دیکھی۔

-۶۷

۱۹۷۰، رامی میخانه، خیابان ناصر



شرماتے ہوئے لمکن وہ بہادر لڑکی اُس عورت کے
مقرب گئی۔ ہمیں اس سے اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ چھوٹی
لڑکی کے لوگوں نے فحیلہ کیا۔ ہم اس سے اور اس
کے بچے کو حفظ رکھنے گے۔

لدھاجپ اور اس کی ماں ایک ساتھر ہے اور زندہ رہنے
کے لیے مختلف طریقے سعی کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان
کے ارد گرد رہنے والے باقی گھر بھی ٹھیک ہو گئے۔

-በዚህ የወጪ አንድ በመረጃ የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡



በዚህ ደንብ የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

በዚህ ደንብ የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

በዚህ ደንብ የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

በዚህ ደንብ



የትክክል የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡



لہھے کو آخر کار معلوم تھا کہ اب اُسے کیا کرنا
ہے۔

لیکن جب انہوں نے جچے کو دیکھا ہر کسی نے حیران
ہو کر پیچھے کی طرف چھلانگ لگائی۔ ایک گدھا!

-مَرْ : شَهْرِيْزَرْ-مَنْجَلْ
 كَرْ-مَنْجَلْ-مَنْجَلْ : كَرْ-مَنْجَلْ-كَرْ
 كَرْ-مَنْجَلْ-كَرْ-مَنْجَلْ-كَرْ-مَنْجَلْ
 كَرْ-مَنْجَلْ-كَرْ-مَنْجَلْ-كَرْ-مَنْجَلْ



اور اس طرح عورت نے خود پھر اکیلا پایا۔ وہ حیران تھی کہ وہ اس عجیب بچے کے ساتھ کیا کرے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھی کہ وہ اپنے ساتھ کیا کرے۔

بہت اوپر بادلوں کے درمیان وہ سو گئے۔ گدھ کو خواب آیا کہ اُس کی ماں بپھار ہے اور اُس سے بُلارہی ہے اور جب وہ جا گا۔۔۔

-اَنْتُمْ دِرْدِرَةٌ فَلَوْلَا شَفَقَتُمْ
كَمْ اَنْتُمْ سَارِقُونَ وَلَمْ تَعْلَمُوا

-اَنْتُمْ مُهَاجِرُونَ
كَمْ اَنْتُمْ شَفَقَتُمْ

اب اگرچہ چھوٹا رہتا تو ہر چیز مختلف ہوتی۔ لیکن گدھا جچے
بڑے سے بڑا ہوتا گیا حق کہ وہ اپنی ماں کی پیٹھ پر ورانہ
آتا۔ اور باوجود اس کے کہ اُس نے بہت کوشش کی
لیکن وہ ایک انسان کی طرح برتاؤ نہ کر سکتا۔ اُس کی ماں اکثر
تھک جاتی اور تگ آجائی۔ بعض اوقات وہ اُس سے
جا فروں والے کام کرواتی۔

لدھا اُس بوڑھے آدمی کے ساتھ رہنے چلا گیا جس
نے اُس سے رہنے کے لیے کئی طریقے
سمیکھا تے۔ گدھا سہیا اور سمیکھتا جس سے وہ بوڑھا آدمی
بھی سمیکھتا۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کر تے اور مل کر
ہنستے۔

-**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

-**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لہذا بہت شرمذہ تھا۔ اُس نے بھاگنا شروع کیا، جتنا تیز
اور جتنا دور وہ بھاگ سکتا تھا۔

وقت کے ساتھ اُس نے بھاگنا بند کیا، رات ہو چکی
تھی اور گدھا کھو گیا تھا۔ ہی ہا؟ وہ اندر ہیرے میں سرسرایا۔
ہی ہا؟ آواز واپس گونجی۔ وہ اکیلا تھا خود کو ایک گیند کی طرح
کول کر کے وہ ایک گہری اور دردناک نیند میں سو گیا۔